

ریفرل گائیڈ - حاری طوفان آنڈا (Ida)
مزید وسائل کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: nyc.gov/ida

صفحہ 1

خدمات	خدمات فراہم کنندہ	خدمات کی وضاحت	رابطے کی معلومات
	چھوٹے کاروباروں کی خدمات کا شعبہ (SBS)	طوفان سے متعلقہ نقصان کا سامنا کرنے والے چھوٹے کاروباروں کے لیے معاونت۔	https://www1.nyc.gov/site/sbs/about/contact-us.page SBS ہاٹ لائن: (888-727-4692) (888-SBS-4NYC)
کاروباری معاونت	امریکی چھوٹے کاروبار کی انتظامیہ (SBA)	کاروباری اداروں، کرایہ داروں اور مکان مالکان کو اعلان کردہ آفات سے بازیاب ہونے میں مدد کے لیے کم شرح سود کے قرض سے متعلق معلومات۔	https://www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance https://www1.nyc.gov/assets/em/downloads/pdf/ida/sba_of_fers_disaster_assistance.pdf SBA کی آفات کی معاونت کے لئے کسٹمر سروس: 1-800-659-2955
صفائی ستھرائی کے لئے مالی امداد	FEMA کی طرف سے صفائی اور سنیشنز کرائے کیلئے امداد (CSA)	FEMA کی طرف سے درخواست دہندگان کو آفت کے سبب املاک کے ایسے حقیقی نقصان کے لیے مالی امداد کی محدود رقم فراہم کی جا سکتی ہے جس میں گھر کو ناقابل اقامت کی حد تک نقصان نہ ہوا ہو۔ صفائی اور سنیشنز کرائے کیلئے امداد (CSA) کا مقصد اضافی نقصانات اور ممکنہ صحت و سلامتی کے خدشات سے بچانے کے واسطے گھر کو پہنچنے والے معمولی نقصان کے ازالے کو یقینی بنانا ہے۔ اہلیت کی شرطیں: ماقبل آفت کی بنیادی رہائش گاہ (خواہ وہ کرائے کی ہو یا اپنی زیر ملکیت ہو) FEMA کی طرف سے آفت کی امداد کے لیے مخصوص کردہ علاقے (جیسے بروئکس، بروکلین، کوئنس، اسٹیٹن آئی لینڈ) میں واقع ہو۔ FEMA کے معائنے کی بنیاد پر، درخواست گزار نے آفت سے ہونے والے نقصان کو ریکارڈ کرایا ہو یا کرایہ داروں کے لیے، صفائی ستھرائی کے اقدامات کی ضرورت ہو یا اقدامات کیے گئے ہوں۔ نقصان کی تلافی درخواست دہندگان کے بیمہ سے نہیں کی گئی ہو۔ FEMA بہ فیصلہ کرے کہ درخواست گزار کی آفت سے تباہ شدہ بنیادی رہائش گاہ سکونت اختیار کرنے کے لیے محفوظ ہے۔ تحدید و استثناء • CSA کی رقم فی گھرانہ \$300 تک محدود ہے۔ • CSA کی رقم یکمشت ادائیگی کے طور پر دی جائے گی۔	درخواست دہندگان کی طرف سے کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو لوگ اہلیت معیار پر پورا اترتے ہیں ان کا خود کار طور پر اندراج ہو جائے گا۔ جن درخواست دہندگان کو سوال پوچھنا ہو، وہ FEMA کی ہیلپ لائن نمبر: 1-800-621-3362 یا ٹی ٹی وائی: 1-800-462-7585 پر صبح 7 بجے تا صبح 1 بجے تک، ہفتے کے 7 ایام کال کر سکتے ہیں۔ اہل درخواست دہندگان صفائی اور سنیشنز کی امداد کے لیے ویب سائٹ: https://www1.nyc.gov/site/em/resources/ida.page#csa پر بھی درخواست دے سکتے ہیں۔

ریفرل گائیڈ – حاری طوفان آئڈا (Ida)
مزید وسائل کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: nyc.gov/ida

صفحہ 2

خدمات	خدمات فراہم کنندہ	خدمات کی وضاحت	رابطے کی معلومات
<u>صفائی ستھرائی کی خدمات</u>	<u>کرائسز کلین اپ</u>	حاری طوفان آئڈا (Ida) کے بعد سیلاب سے ہوئے نقصان کو صاف کرنے میں رضاکارانہ مدد فراہم کرتا ہے۔ کرائسز کلین اپ آپ کو مقامی اور قومی امدادی تنظیموں کے رضاکاروں سے رابطہ کرائے گا جو مدد کر سکتے ہیں: <ul style="list-style-type: none"> • ڈرائی وال، فرش، اور آلات کو ہٹانا • پھپھوندی (mold) کی تخفیف • گرے ہوئے درختوں کو کاٹنا۔ تمام خدمات مفت ہیں، لیکن بہت زیادہ ضرورت مندی کی وجہ سے خدمات کی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔	917-243-1005 پر کال کریں۔
<u>آفات کی معاونت</u>	<u>فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی (FEMA)</u>	امداد کی انفرادی درخواستیں اور درخواستوں کا فالو-اپ۔ اہلیت کی معلومات: تمام درخواست دہندگان کو ایک تصویری شناختی کارڈ، گھر کے افراد کی معلومات، آمدنی یا بینک کی معلومات، اور اثاثوں کے دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ "آفات کے بعد مدد" کے بروشرز: https://www.fema.gov/assistance/individual/brochure 27 زبانوں میں دستیاب ہیں، اور FEMA کی طرف سے فراہم ہونے والی آفات کی امداد کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہیں، جس کے لیے صارفین درخواست دے سکتے ہیں، خواہ ان کے پاس بیمہ ہو یا نہ ہو۔ نوٹ: اگر آپ کا بیمہ کیا ہوا ہے تو آپ کو فوری طور پر اپنی انشورنس کمپنی میں دعویٰ دائر کرنا چاہیے۔ FEMA کی طرف سے ان نقصانات کے لیے امداد فراہم نہیں کی جاسکتی ہے جن کا احاطہ انشورنس کے ذریعے پہلے ہی کیا جاچکا ہو۔ آفات کے وفاقی اعلان اور دستیاب امداد سے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سوالات اور اضافی معلومات کے لیے یہ ویب سائٹ ملاحظہ کریں: https://www.fema.gov/disaster/4615	<ul style="list-style-type: none"> • اس ویب سائٹ https://www.disasterassistance.gov/ پر آفات کی امداد کے لیے درخواست دیں اور اپنی جائیداد کو پہنچنے والے نقصان کی اطلاع دیں۔ یا مزید معلومات کے لئے https://www.fema.gov/disaster/hurricane-ida ملاحظہ کریں۔ • صبح 7 بجے تا صبح 1 بجے تک، ہفتے کے 7 دن کال کریں: ○ 1-800-621-3362 (711 یا VRS دستیاب) ○ ٹی ٹی وائی: 1-800-462-7585 اگر آپ ریلے سروس (ویڈیو فون، CapTel، InnoCaption، وغیرہ) استعمال کرتے ہیں تو براہ کرم اس سروس کو تفویض کردہ اپنا نمبر فراہم کریں۔ FEMA کو آپ سے رابطہ کرنے پر قادر ہونا لازمی ہے۔ اس بات سے آگاہ رہیں کہ FEMA کی طرف سے آنے والی فون کالز کسی نامعلوم نمبر سے آتی ہوئی ظاہر ہوسکتی ہیں۔

ریفرل گائیڈ - حاری طوفان آندا (Ida)

خدمات	خدمات فراہم کنندہ	خدمات کی وضاحت	رابطے کی معلومات
<u>مالی معاونت</u>	ڈیپارٹمنٹ آف فائنانشل سروسز (DFS)	نیو یارک کا ریاستی محکمہ برائے مالی خدمات طوفان سے متاثرہ باشندوں اور کاروباری ادارے کے مالکان کو نقصانات کی پالیسی کوریج سے متعلق بیمہ کی اطلاعات اور اپنے نقصانات کو دستاویزی شکل دینے اور اپنی املاک کی حفاظت کے بارے میں تجاویز فراہم کر سکتا ہے۔	www.dfs.ny.gov ڈیپارٹمنٹ آف فائنانشل سروسز ہاٹ لائن کا عملہ پیر سے جمعہ صبح 8:30 سے شام 4:30 تک دستیاب ہے۔ 342-3736 (800) پر کال کریں یا ای میل بھیجیں consumers@dfs.ny.gov ۔ ڈیپارٹمنٹ آف فائنانشل سروسز کی ہاٹ لائن: بینکنگ، بیمہ اور دعوے کے مسائل کے لئے 339-1759 (800) پر کال کریں
	ڈیپارٹمنٹ آف لیبر (DOL)	ایکسکلوڈڈ ورکر فنڈ (EWF)، بے روزگاری کا بیمہ، سابق فوجیوں کی خدمات، افرادی قوت کی ترقی، یوتھ اور کریئر کی خدمات کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔	درخواست دہندگان 7/24 آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، اور نیویارک اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف لیبر کا کثیر لسانی کال سینٹر ہفتے میں ساتوں دن، صبح 7 بجے سے شام 7 بجے تک کھلا ہے، 888-209-8124 پر کال کریں۔ www.labor.ny.gov/floodhelp
	کیتھولک چیریٹیز آف بروکلین اینڈ کوئینز (CCBQ)	کمیونٹی آؤٹ ریچ سینٹر کے توسط سے کیس مینجمنٹ اور ریفرلز کی محدود مالی امداد	/https://www.ccbq.org/get-help/emergency-assistance 722-6001 (718) پر کال کریں
	ہیبرو فری لون سوسائٹی	ہیبرو فری لون سوسائٹی نے ان لوگوں کے لیے تین نئے طوفان کو پہنچنے والے نقصان کے قرض کے پروگرام ترتیب دیے ہیں جن کی مالی امداد کی دوسری شکلوں تک رسائی نہیں ہے۔ یہ طوفان سے ہونے والے نقصانات کو پورا کر سکتے ہیں، بشمول مرمت اور تزئین و آرائش، وسیع صفائی اور مولڈ کا تدارک، ذاتی سامان اور گھریلو ضروری اشیاء کا بدل، اور عارضی منتقلی۔	/https://hfls.org/loan-programs/storm-damage یا (212) 0188-687 پر کال کریں۔

ریفرل گائیڈ - حاری طوفان آئڈا (Ida)
مزید وسائل کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: nyc.gov/ida

صفحہ 4

خدمات	خدمات فراہم کنندہ	خدمات کی وضاحت	رابطے کی معلومات
	سالویشن آرمی (Salvation Army)	مقامی ایمرجنسی فوڈ پروگرام بشمول فوڈ بینٹری (اشیائے خوردنی) کی تقسیم اور سوپ کچن کے کھانے۔	اپنے قریبی سالویشن آرمی کورپس کمیونٹی سنٹر کا پتہ لگائیں: https://easternusa.salvationarmy.org/eastern-territory/location-search/
<u>خوراک میں معاونت</u>	کیٹھولک چییریٹیز آف بروکلین اینڈ کونینز (CCBQ)	ہنگامی خوراک کی تقسیم اور وسائل کے میلے (تاریخوں اور مقامات کے لیے ویب سائٹ دیکھیں) 20 فوڈ بینٹریاں (فہرست کے لئے ویب سائٹ دیکھیں)	/https://www.ccbq.org/liveitup https://www.ccbq.org/service/food-pantry-network یا کال کریں۔ (718) 722-6001 پیر سے جمعہ، صبح 9 سے شام 5 بجے تک
	سٹی ہارویسٹ (City Harvest)	<ul style="list-style-type: none"> فوڈ بینٹری سوپ کچن موبائل مارکیٹ 	شہر میں فوڈ بینٹری تلاش کرنے میں مدد کی ضرورت ہے؟ https://www.cityharvest.org/food-map ملاحظہ کریں
<u>رہائشی معاونت</u>	ڈپارٹمنٹ آف بلڈنگس (DOB)	پانی کے اخراج کی ریفرف خدمات، مکان مالک کے لئے تعمیر نو کی رہنمائی، اور ٹھیکیدار کے لئے رہنمائی۔	https://www1.nyc.gov/site/buildings/dob/contact-us.page مرکزی نمبر: (212) 566-5000 آن لائن ہیلپ فارم: www.nyc.gov/dobhelp
	رہائش گاہوں کی حفاظت اور تشکیل کا شعبہ (HPD)	کرایہ داروں کے لیے معلومات، مکان مالکان کے لیے وسائل، اور رہائشی وسائل و معلومات۔	<ul style="list-style-type: none"> عام معلومات کے لئے 212-863-6300 پر کال کجیئے۔ توسیع شدہ اوقات: پیر تا جمعہ 9 بجے صبح تا شام 4 بجے https://www1.nyc.gov/site/hpd/contact/contact.page

مزید معلومات 311 پر فون کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں
(ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675، یا ٹی ٹی وائے: 212-504-4115)

2021/28/10

ریفرل گائیڈ - جاری طوفان آئڈا (Ida)
مزید وسائل کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: nyc.gov/ida

صفحہ 5

خدمات	خدمات فراہم کنندہ	خدمات کی وضاحت	رابطے کی معلومات
شناختی کارڈ (ID) کی خدمات	موٹر گاڑیوں کا محکمہ (DMV)	DMV کی طرف سے ڈپلیکیٹ دستاویزات جیسے گاڑی کا ٹائٹل، لائسنس، شناخت اور/یا گاڑی کی رجسٹریشن حاصل کرنے میں مدد کی جاتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں: اگر انفرادی اشخاص کی گاڑی متاثر ہوئی ہے تو ان کو اپنی انشورنس کمپنی کے توسط سے جانا پڑے گا۔	ریزرویشن کروانے کے لیے www.Dmv.ny.gov ملاحظہ کریں۔
امیگریشن معاملات کیلئے میئر کا دفتر (MOIA)	امیگریشن معاملات کیلئے میئر کا دفتر (MOIA)	ان کمیونٹی اراکین کی IDNYC حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے جن کے شناختی کارڈ کھو گئے ہیں اور امیگریشن سے متعلق سوالات اور تشویشات کے جواب دینا ہے۔	کمیونٹی کا رکن امیگریشن سے متعلق درخواست دے سکتا ہے یا 212-788-7654 پر فون کر کے یا AskMOIA@moia.nyc.gov پر ای میل کر کے سوالات پوچھ سکتا ہے۔
بیمہ	نیشنل فلڈ انشورنس پروگرام (NFIP)	<ul style="list-style-type: none"> اپنا دعویٰ دائر کرنے کی ابتداء کیسے کریں اس میں NFIP کے پالیسی یافتگان کو اپنی فلڈ انشورنس کی پالیسیوں کے تحت دعویٰ دائر کرنے کے طریقے سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ نقصانات کو درج کرنے کا طریقہ اس میں صارفین کو سیلاب سے ہونے والے نقصان کو کیسے درج کرنا چاہیے اور غلاظت کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرنے کے طریقے سے متعلق تجاویز پیش کی جاتی ہیں۔ NFIP کے دعوے کی ہینڈ بک ان چیزوں کے بارے میں تفصیلی، مرحلہ وار رہنمائی پر مشتمل ہے جو NFIP کے پالیسی یافتگان کو سیلاب سے متعلق اپنے دعوے دائر کرنے کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ 	<p>اپنا دعویٰ دائر کرنے کی ابتداء کیسے کریں:</p> <p>https://www.floodsmart.gov/start</p> <p>نقصانات کو درج کرنے کا طریقہ:</p> <p>https://www.floodsmart.gov/flood/document-damage</p> <p>NFIP کے دعوے کی ہینڈ بک: https://bit.ly/claimshandbook</p>

ریفرل گائیڈ - حاری طوفان آنڈا (Ida)
مزید وسائل کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: nyc.gov/ida

صفحہ 6

خدمات	خدمات فراہم کنندہ	خدمات کی وضاحت	رابطے کی معلومات
<p><u>دماغی صحت سے متعلق</u> <u>مدد اور جذباتی اور</u> <u>روحانی دیکھ بھال</u></p>	<p>نیو یارک محکمہ صحت و دماغی تندرستی (DOHMH)</p>	<p>دماغی صحت/جذباتی معاونت، بنیادی نگہداشت کی معلومات، صحت انشورنس کی اہلیت، صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی معلومات، اور ادویات کے ریفرل۔</p>	<p>24 گھنٹے دستیاب ہاٹ لائن: 888-692-9355 65173 پر "WELARCL" ٹیکسٹ کریں آفات کے مصیبت کی ہیلپ لائن (سات دن، چوبیس گھنٹے کی ہاٹ لائن): 1-800-985-5990۔ ہسپانوی کے لئے، 2 دبائیں۔ 66746 کو "TalkWithUs" ایم ایس ٹیکسٹ کریں۔ ہسپانوی کے لئے 66746 کو "Hablamos" ٹیکسٹ کریں۔ ملاحظہ کریں: www.disasterdistress.samhsa.gov</p>
	<p>نیویارک کا ریاستی دفتر برائے دماغی صحت (NYS OMH)</p>	<p>NYS OMH کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جذباتی معاونت کی خدمات فراہم کرتا ہے جو بحران میں پھنسے ہوئے ہیں یا کسی تکلیف دہ واقعے کا سامنا کر چکے ہیں۔</p>	<p>www.Omh.ny.gov 1-800-597-8481</p>
	<p>نیویارک ٹراسٹر انٹر فیتھ سروسز (بین المنذبی خدمات) (NYDIS)</p>	<p>روحانی معاونت فراہم کنندگان اور مصیبت کی گھڑیوں میں تربیت یافتہ منذبی رہنماؤں کیلئے ریفرل</p>	<p>کال کریں: 212-669-6100، پیر تا جمعہ 9 بجے صبح تا شام 5 بجے</p>
<p><u>سماجی بہبود (ہیلپ)</u> <u>اسسٹنس کے فائدے</u></p>	<p>ہیومن ریسورس ایڈمنسٹریشن (HRA) سوشل سروسز کا شعبہ (DSS)</p>	<p>درخواست میں معاونت برائے: • انٹیک (معلومات درج کرنا) • رقم کی معاونت کے پروگرام • ہنگامی SNAP فوائد • میڈیکل</p> <p>اہلیت کی معلومات: پروگرام کے حساب سے اہلیت مختلف ہوتی ہے، لیکن تمام درخواست دہندگان کو تصویری شناخت کارڈ، گھریلو معلومات، آمدنی یا بینک کی معلومات، اور اثاثوں سے متعلق دستاویزات فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔</p>	<p>اپارٹمنٹ کے اخراجات میں ہنگامی معاونت کیلئے ہیومن ریسورس ایڈمنسٹریشن (HRA) کی ویب سائٹ پر جاکر ACCESS HRA دیکھئے۔ درخواست جمع کرانے کے بعد HRA آپ کو سات (7) دن میں کال کرے گا۔ کاغذات کی ضرورت پڑسکتی ہے۔ https://www1.nyc.gov/site/hra/help/i-need-help.page https://a069-access.nyc.gov/accesshra/</p>

مزید معلومات 311 پر فون کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں
(ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675، یا ٹی ٹی وائے: 212-504-4115)

2021/28/10

ریفرل گائیڈ - جاری طوفان آنڈا (Ida)
مزید وسائل کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: nyc.gov/ida

صفحہ 7

خدمات	خدمات فراہم کنندہ	خدمات کی وضاحت	رابطے کی معلومات
	دفتر اطفال و خاندانی خدمات (OCFS)	OCFS کی طرف سے بچوں کی نگہداشت، بچوں کی نگہداشت فراہم کنندہ کے گرانٹس، اور مابعد اسکول کی نگہداشت کے ریفرفل کی خدمات کا پتہ لگانے میں مدد فراہم کی جاتی ہے۔	مزید معلومات کے لیے، www.ocfs.ny.gov ملاحظہ کریں یا 1-800-345-5437 پر فون کریں۔
<u>سماجی بہبود (پبلک اسسٹنس) کے فائدے</u>	عارضی اور معذوری کی معاونت کا دفتر (OTDA)	OTDA کی طرف سے سماجی خدمات فراہم کی جاتی ہیں، جیسے کرایہ کی امداد، مہاجرین کی مدد، اور معذوری کے تعین کے شعبے کے ذریعے دی جانے والی امداد۔	مزید معلومات کے لیے، براہ کرم www.OTDA.ny.gov ملاحظہ کریں یا 855-355-5777 پر کال کریں۔
	عمر رسیدگی سے متعلق شعبہ (DFTA)	گھر پر فراہم کیا جانے والا کھانا، کمیونٹی سینٹر، کیس مینجمنٹ، روزگار کی خدمات (+55)۔ اہلیت کی معلومات: سینئر سینٹر کے لئے +60 اور روزگار کا اہلیت معیار +55	https://www1.nyc.gov/site/dfta/about/contact-the-department-for-the-aging.page 212-244-6469 یا 311 پر کال کریں
<u>پالتو جانوروں کی دیکھ بھال میں معاونت</u>	جانوروں پر ظلم روکنے کے لئے امریکن سوسائٹی (ASPCA)	ASPCA کے ذریعہ پالتو جانوروں کا چارہ مہیا کیا سکتا ہے۔	referrals@aspca.org
	جانوروں کی نگہداشت کے مراکز (ACC)	گمشدہ پالتو جانوروں کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔	212-510-7107 پر کال کریں۔

ریفرل گائیڈ - جاری طوفان آندا (Ida)
مزید وسائل کے لیے، براہ کرم ملاحظہ کریں: nyc.gov/ida

صفحہ 8

خدمات	خدمات فراہم کنندہ	خدمات کی وضاحت	رابطے کی معلومات
<u>معلومات اور ریفرفل:</u>	کیٹھولک چیریٹیڈ کمیونٹی سروسز، نیویارک کا آرچڈیوسیس (CCCS)	کیٹھولک چیریٹیڈ کمیونٹی سروسز ہیلپ لائن کیٹھولک چیریٹیڈ کمیونٹی سروسز کے اندر ہمارے پروگراموں اور دیگر ایجنسیوں کو بھی معلومات اور حوالہ فراہم کرتی ہے۔ کیٹھولک چیریٹیڈ کمیونٹی سروسز مین ہیٹن، برونکس اور نچلی ہڈسن ویلی میں طرح طرح کی خدمات مہیا کرتی ہے۔	کیٹھولک چیریٹیڈ کمیونٹی سروسز ہیلپ لائن: 888-744-7900 ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں: https://cccsny.org/our-services ہم سے آٹلانن رابطہ کریں: https://cccsny.org/contact-us
	ریاست نیویارک کا محکمہ صحت (DOH)	DOH کی طرف سے مولڈ (پھتہندی) اور دیگر آلودگیوں کے بارے میں رہنمائی سمیت سیلاب کی صفائی اور گھر کی مرمت سے متعلق رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ مزید برآں، DOH کی طرف سے سیلاب کے بعد چوٹ اور بیماری سے بچنے کے طریقے، پانی کو محفوظ طریقے سے پینے اور کاربن مونو آکسائیڈ کے زہر سے بچنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔	https://health.ny.gov/
	نیویارک سٹی کے کمپٹروالر کا دفتر	پانی کے نقصان یا خسارے کا دعویٰ دائر کرنے میں معاونت	(212) 669-3916 https://comptroller.nyc.gov/services/for-the-public/claims/file-a-claim

مزید معلومات 311 پر فون کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں
(ویڈیو ریلے سروس کے لئے 212-639-9675، یا ٹی ٹی وائے: 212-504-4115)

2021/28/10